

22343 - پٹھوں کی بیماری اور مسلسل ہوا کا خارج ہونا

سوال

میں پٹھوں کی بیماری میں مبتلا ہوں جس کی بنا پر پیٹ پھول جاتا اور گیس ٹریل کا شکار رہتا ہوں، اور ہوا خارج ہونے کو کنٹرول نہیں کر سکتا جس کی بنا پر مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اور میری نماز میں خلل پیدا کرتی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ:

اگر نماز جمعہ کے لیے میں جمعہ سے ایک گھنٹہ قبل گھر سے نکلوں تو کیا خطبہ شروع ہونے سے قبل دوبارہ وضوء کرنا ہو گا، یہ علم میں رہے کہ ایسا کرنے میں بہت مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ وضوء خانہ میں بہت رش ہوتا ہے؟

دوم:

میں مسجد کا مؤذن ہوں، اور بعض اوقات جماعت بھی کروانا پڑتی ہے اس حالت میں میری امامت کا حکم کیا ہو گا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

آپ کی حالت مسلسل پیشاب جاری رہنے والے کی بیماری میں مبتلا شخص جیسی ہی ہے، اس لیے آپ کے لیے ہر نماز کا وقت شروع ہونے پر وضوء کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ نماز جمعہ کے لیے بھی دوسری اذان ہونے کے بعد وضوء کریں، چاہے رش کتنا بھی زیادہ ہو.

رہا مسئلہ آپ کی امامت کے متعلق تو اس میں راجح یہی ہے کہ آپ کی امامت کروانا صحیح ہے، اور اگر آپ کسی دوسرے کو نماز پڑھانے دیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا احتمال ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو جائے، اور لوگ برا منائیں، حالانکہ آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو اپنی حالت تو نہیں بتائی کہ لوگ آپ کے بارہ میں غلط خیال نہ کریں.

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اس بیماری کو دور فرمائے، اور آپ کو صحت و عافیت سے نوازے.

والله اعلم .